



بنگلہ دیش ویمن کرکٹ ٹیم کے دورہ پاکستان کا شیڈول جاری

- 3 ٹی ٹونٹی اور 2 ایک روزہ میچز پر مشتمل سیریز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوگی
- سیریز 26 اکتوبر سے 4 نومبر تک جاری رہے گی

لاہور، 30 اگست 2019ء:

پاکستان کرکٹ بورڈ نے اعلان کیا ہے کہ بنگلہ دیش ویمن کرکٹ ٹیم 3 ٹی ٹونٹی اور 2 ایک روزہ میچوں پر مشتمل سیریز میں شرکت کے لیے اکتوبر میں پاکستان آئے گی۔ سیریز 26 اکتوبر سے 4 نومبر تک جاری رہے گی۔

مہمان ٹیم 2 ہفتوں پر مشتمل دورے میں شرکت کے لیے 23 اکتوبر کو لاہور پہنچے گی۔ ایونٹ کے تمام میچز قذافی اسٹیڈیم لاہور میں ہوں گے۔ ٹی ٹونٹی سیریز کا پہلا میچ 26، دوسرا 28 اور تیسرا 30 اکتوبر کو کھیلا جائے گا۔ ایک روزہ سیریز کے مقابلے 2 اور 4 نومبر کو ہوں گے۔

گذشتہ 4 سالوں میں بنگلہ دیش ویمن کرکٹ ٹیم کا پاکستان کا یہ دوسرا دورہ ہے۔ مہمان ٹیم کا دورہ پاکستان پی سی بی کی جانب سے ملک میں انٹرنیشنل کرکٹ کی مکمل بحالی کی کاوشوں کا نتیجہ ہے۔ سری لنکامینز کرکٹ ٹیم بھی ایک روزہ اور ٹی ٹونٹی سیریز میں شرکت کے لیے آئندہ ماہ پاکستان کا دورہ کر رہی ہے۔

اس سے قبل بنگلہ دیش ویمن کرکٹ ٹیم نے 2015 میں پاکستان کا دورہ کیا تھا۔ دورے میں 2 ٹی ٹونٹی اور 2 ایک روزہ میچز شامل تھے۔

قومی خواتین کرکٹ ٹیم نے گذشتہ سال 4 ٹی ٹونٹی اور 1 ایک روزہ میچز کے لیے بنگلہ دیش کا دورہ کیا تھا۔ پاکستان ویمن کرکٹ ٹیم نے ٹی ٹونٹی سیریز 0-3 سے جیتی جبکہ سیریز کے واحد ایک روزہ میچ میں بنگلہ دیش فاتح رہا تھا۔

شیڈول:

26 اکتوبر: پہلا ٹی ٹونٹی میچ، قذافی اسٹیڈیم لاہور
28 اکتوبر: دوسرا ٹی ٹونٹی میچ، قذافی اسٹیڈیم لاہور
30 اکتوبر: تیسرا ٹی ٹونٹی میچ، قذافی اسٹیڈیم لاہور
2 نومبر: پہلا ایک روزہ میچ، قذافی اسٹیڈیم لاہور
4 نومبر: دوسرا ایک روزہ میچ، قذافی اسٹیڈیم لاہور
- ENDS -

Media contact:

Ibrahim Badees Muhammad

Editor – Urdu Content

Media and Communications

E: ibrahim.badees@pcb.com.pk

M: +92 (0) 345 474 3486

W: www.pcb.com.pk

ABOUT THE PCB

The Pakistan Cricket Board (PCB) is the sole governing body for the game of cricket in Pakistan. Its goal is to work in partnership with its stakeholders to promote, develop and grow the game throughout the country.

The PCB's purpose is to maintain and enhance the reputation and integrity of the game, fostering excellence and upholding the spirit of the game. The PCB selects junior and senior national men's and women's cricket teams to represent the country on the global stage, runs high performance cricket centres across the country and plans and organises domestic competitions and international bi-lateral series.

The PCB is committed to developing ground and facility infrastructure, monitoring the implementation of playing codes and regulations, and supporting the game at every level through its high quality training provision for officials and coaches.

Commercial Partners



www.pcb.com.pk
@therealpcb
@PakistanCricketBoard
@PakistanCricketOfficial
@therealpcb
PCB Headquarters
Gaddafi Stadium
Ferozeshah Road, Lahore
Pakistan, PO Box 54000
T: +92 42 3571 7231-4

